

Consulting | Training | Web based
Taxation Support Services

TAX TIP OF THE WEEK

The statement referred to in sub-rule (2) shall be accompanied by the evidence of deposit of tax collected or deducted to the credit of the Federal Government.

QUOTE OF THE WEEK

There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure.

Colin Powell

BUSINESS TERM OF THE WEEK

Anti-Martingale System

A method of determining the size of an investment according to the risk involved and existing portfolio size, as opposed to using a fixed amount formula.

WEEKLY UPDATES (SROs, Circulars etc.)

Income Tax :

- SRO# 421(1)/2017 June 05, 2017
- SRO# 452(1)/2017 June 08, 2017

Sales Tax:

- SRB-3-4/8/2017 June 05, 2017
- SRB-3-4/10/2017 June 05, 2017
- SRB-3-4/11/2017 June 05, 2017
- SRB-3-4/12/2017 June 05, 2017
- SRB-3-4/13/2017 June 05, 2017
- G.O # 94/2017 June 05, 2017

MEMBER QUERIES

Question: If a person get registered with FBR as business individual and nature of business is property dealer. Now the same person has left the business and started a private job, his salary is below taxable limits my questions are: 1. what is the procedure to change the particulars now is salaried individual 2. he never file income tax return till date and wants to file income tax return, what would be the procedure for this.

Answer: Get user id and password through enrollment in IRIS.

- Apply for modification in particulars through IRIS
- File the return by mentioning relevant details of Salary / Business.

Question: Dear Sir, An account is opened with the name of unit (Military Unit), please guide whether Armed Force account is exempt from tax 1. 151 2. 231A 3. 236P Kindly give the reference

Answer: Defense departments are controlled by the Federal Government and the income of Federal Government is exempt from tax as provided in section 49(1) of the Ordinance. As well as exemption u/s 151 is concerned, the exemption certificate issued by the commissioner is required.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ
Surah Al-i'Imran, Ayat 84

Maulana Muhammad Joona Garhi	آپ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا ہے اور جو کچھ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتارا گیا اور جو کچھ موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام پر اور دوسرے (انبیاء علیہم السلام) اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیئے گئے ان سب پر ایمان لائے (۱) ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہیں۔
Maulana Ishaq Madni	کہو کوئی مانے یا نہ مانے ہم تو بہر حال ایمان لائے اللہ پر اور اس (وحی و کتاب) پر جو اتاری گئی ہم پر، اور اس پر بھی جو اتاری گئی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اور ان کی اولاد پر، اور اس سب پر بھی جو کچھ کہ دیا گیا موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے نبیوں کو، ان کے رب کی جانب سے، ہم ان میں سے کسی ایک کی بھی تفریق نہیں کرتے، ہم خالص اسی کے فرمانبردار ہیں،
Maulana Mahmood ul Hassan Deobandi	تو کہہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ اترا ہم پر اور جو کچھ اترا ابراہیم پر اور اسماعیل پر اور اسحاق پر اور یعقوب پر اور اس کی اولاد پر اور جو موسیٰ کو اور عیسیٰ کو اور جو ملا سب نبیوں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ہم جُدا نہیں کرتے ان میں کسی کو اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں ا
Maulana Fateh Muhammad Jalandhri	کہو کہ ہم خدا پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اور جو صحیفہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اترا اور جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملیں سب پر ایمان لائے ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی (خدائے واحد) کے فرمانبردار ہیں
Maulana Ahmad Ali Lahori	کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا اور جو کچھ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد پر نازل کیا گیا اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ اور سب نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے ملا ہم ان میں سے کسی کو جدا نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں
Maulana Abul Aala Maududi	اے نبی، کہو کہ "ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب پر نازل ہوئی تھیں، اور ان ہدایات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئیں۔ ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ ۷۲ اور ہم اللہ کے تابع فرمان (مسلم) ہیں۔"
Maulana Abdur Rehman Kilani	آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم تو اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر اتاری گئی اور اس پر بھی جو حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اس کی اولاد پر نازل ہوئی اور ان (کتابوں) پر بھی جو حضرت موسیٰ و عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے دی گئیں۔ ہم ان کے درمیان کچھ فرق نہیں [۷۳] کرتے اور ہم اسی اللہ کے تابع فرمان ہیں
Maulana Taqi Usmani	Say, "We believe in Allah and in what has been revealed to us and in what was revealed to Ibrahim, Isma'il, IsHaq, Ya'qub and the descendants, and in what has been given to Musa, Isa, and the prophets, from their Lord: We do not differentiate between any of them; and to Him we submit ourselves.
Maulana Abdul Majid Daryabadi	Say thou: we believe in Allah and in that which is sent down unto us, and that which was sent down unto Ibrahim and Isma'il and Is-haq and Ya'qub and the tribes, and that which was vouchsafed unto Musa and 'Isa and other prophets from their Lord: we differentiate not between any of them, and unto Him we are submistic.
Sahih International	Say, "We have believed in Allah and in what was revealed to us and what was revealed to Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob, and the Descendants, and in what was given to Moses and Jesus and to the prophets from their Lord. We make no distinction between any of them, and we are Muslims [submitting] to Him."

صحیح بخاری: جلد اول: حدیث نمبر ۱۸۳۰ حدیث قدسی مکررات ۹۸ متفق علیہ ۱۷

ابراہیم بن موسیٰ، ہشام بن یوسف، ابن جریج، عطاء، ابوصالح زبیر ابومیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان کے ہر عمل کا بدلہ ہے، مگر روزہ کہ وہ خاص میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں اور روزہ ڈھال ہے۔ جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو، تو نہ شور مچائے اور نہ فحش باتیں کرے اگر کوئی شخص اس سے جھگڑا کرے یا گالی گلوچ کرے تو کہہ دے میں روزہ دار آدمی ہوں اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے روزہ دار کے منہ کی بواللہ کے ہاں مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، جب افطار کرتا ہے۔ تو خوش ہوتا ہے اور جب اپنے رب سے ملے گا تو روزہ کے سبب سے خوش ہوگا۔